

Government Pakistan

Benazir Income Support Program

Press Release

AUSTRALIAN HIGH COMMISSIONER TO PAKISTAN CALLS ON SHAZIA MARRI

Benazir Income Support Program rolled out its operations in flood affected areas within no time, Shazia Marri

Islamabad (2 September 2022) - Australian High Commissioner to Pakistan, Neil Hawkins calls on Federal Minister for Poverty Alleviation and Social Safety, Shazia Marri at Benazir Income Support Program Headquarters, Islamabad.

Federal Minister, Shazia Marri expressed her gratitude on behalf of the Government as well as people of Pakistan for the announcement of 2 million USD humanitarian assistance by the Government of Australia for the flood affected areas in Pakistan. Keeping in view the current devastating situation, Pakistan needs help from global community, she added.

Benazir Income Support Program rolled out its operations in the flood affected areas within no time and presently the flood relief activities are operational in 69 districts by establishing more than 400 payment sites, Federal Minister Shazia Marri said.

Shazia Marri congratulated the Neil Hawkins for his appointment as the Australian High Commissioner for Pakistan. I am confident that the bilateral relations between the two countries will further be strengthened during your tenure, she said.

Pakistan attaches great importance to its relations with Australia which is rooted in commonality of interests, close people to people contacts and shared passion for cricket and there is enormous scope for enhancement of mutually beneficial economic, trade and investment opportunities, she added.

Shazia Marri appreciated Australian's support during the recent Plenary Meeting of FATF held in Berlin in June 2022.

As Pakistan offers a large pool of highly skilled human resource, therefore, Pakistan would like to develop a comprehensive partnership with Australia in economic, trade, education and defense, agriculture, climate and science and technology.

حکومت پاکستان
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام

پریس ریلیز

شازیہ مری کی آسٹریلوی ہائی کمشنر سے ملاقات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے فوری طور پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے ، شازیہ مری

اسلام آباد (2 ستمبر 2022) – پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر، نیل ہاکنز نے وفاقی وزیر برائے
تخفیف غربت و سماجی تحفظ، محترمہ شازیہ مری سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہیڈ آفیسرز میں ملاقات
کی۔

وفاقی وزیر، شازیہ مری نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے حکومت آسٹریلیا کی جانب
سے 20 لاکھ امریکی ڈالر کی انسانی امداد کے اعلان پر حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے
شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ تباہ کن صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کو عالمی
برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔

وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے فوری طور پر سیلاب سے متاثرہ
علاقوں میں اپنی کارروائیاں شروع کر دیں ہیں اور اس وقت ملک بھر 400 سے زائد ادائیگی مراکز قائم
کئے جا چکے ہیں جن کے تحت 69 اضلاع میں سیلاب سے متعلق امدادی سرگرمیاں چل رہی ہیں۔
شازیہ مری نے نیل ہاکنز کو پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر کے عہدے پر تعیناتی پر مبارکباد
پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات
مزید مضبوط ہوں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے جس کی جڑیں باہمی
مفادات، عوام سے قریبی رابطوں اور کرکٹ کے لیے مشترکہ جذبات پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک کے
مابین اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔
شازیہ مری نے جون 2022 میں برلن میں ہونے والے FATF کے حالیہ اجلاس کے دوران آسٹریلیا کی
حمایت کو سراہا۔

پاکستان کے پاس ہنر مند انسانی وسائل کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے اور پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ
اقتصادی، تجارتی، تعلیم، دفاع، زراعت، موسمیاتی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ایک جامع
شراکت داری کو فروغ دینا چاہتا ہے۔